

# Rajab daily Dua'a

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْمَوْلُودَيْنِ

*Allahuma Inni Asaluka be  
Mouludaene*

Shaykh al Tusi (R.A) has also narrated that a document signed by Imam al-Mahdi (A) was received by Shaykh Abu'l-Qasim, Imam al-Mahdi's representative, comprising that the following supplication to be recited in the month of Rajab

*(Arabic text with English, Urdu, Hindi Translation & English Transliteration)*

For any errors / comments please write to: [duas.org@gmail.com](mailto:duas.org@gmail.com)

Kindly recite Sura E Fatiha for Marhumeen of all those who have worked towards making this small work possible.  
To display the font correctly, please use the Arabic font "Attari\_Quran\_Shipped" , Urdu font "Alvi Nastaleeq" & Hindi font "Mangal". Download font here : <http://www.duas.org/fonts/>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

O' Allāh send Your blessings on  
Muhammad  
and the family of Muhammad.

اے اللہ! رحمت فرما محمد و آل (ع) محمد پر

ऐ अल्लाह मुहम्मद और आले मुहम्मद पर अपनी सलामती रख

*allahumma salli `ala muhammadin wa ali muhammadin*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**In the Name of Allāh,  
the All-beneficent, the All-merciful.**

عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے

अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यन्त दयावान हैं।

***bi-smi llahi r-rahmani r-rahimi***

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْمَوْلُودَيْنِ فِي  
رَجَبٍ

**O Allah: I beseech You in the name of those  
who were born in Rajab,**

اے مبعود! ماہ رجب میں متولد ہونے والے دو مولودوں کے واسطے  
سے سوال کرتا ہوں

اے مابود! ماہے رجب میں متاواللید ہونے والے دو مولودوں کے واسطے سے سوال کرتا  
ہوں

*allahumma inni asaluka bilmawludayni fi rajabin*

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْثَانِي وَابْنِهِ عَلِيٍّ بْنِ  
مُحَمَّدٍ الْمُنْتَجَبِ ،

**Muhammad ibn `Ali II and his son `Ali ibn  
Muhammad, the divinely selected.**

جو محمد (ع) بن علی ثانی ورا ان کے فرزند علی (ع) بن محمد (ع) بلند نسب  
والے ہیں

جو موہممد (ا:س) بِن اَلی (ا:س) سانی اور انکے فرزند اَلی (ا:س) بِن  
موہممد (ا:س) بلند نسب والے ہیں

*muhammadi bni `aliyy alththany wabnihi `aliyy bni  
muhammadin almuntajab,*

وَأَتَقَرَّبُ بِهِمَا إِلَيْكَ خَيْرَ الْقُرْبِ ،

**And I seek nearness to You through both of them for they are the best means of nearness to You.**

ان دونوں کے واسطے سے تیرا بہترین تقریب چاہتا ہوں

ईन दोनों के वास्ते से तेरा बेहतरिन तक़रीब चाहता हूँ

***wa ataqarrbu bihima ilayka khayra alqurabi,***

يَا مَنْ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ طُلِبَ ،

O He from Whom favors are sought,

اے وہ ذات جس سے احسان و کرم طلب کیا جاتا ہے

ऐ वो ज़ात! जिस से एहसान व करम माँगा जाता है

*ya man ilayhi alma`rufu tuliba,*

وَفِيْمَا لَدَيْهِ رُغْبَ ،

and what He possesses is desired;

اور جو اسکے پاس ہے اس کی خواہش کی جاتی ہے

اور جو اسکے پاس ہے، اسکے خواہش کی جاتی ہے

*wa fima ladayhi rughiba,*



أَسْأَلُكَ سِئَالَ مُقْتَرِفٍ مُذْنِبٍ قَدْ  
أَوْبَقَّتْهُ ذُنُوبُهُ ،

I beseech You with the entreaty of him  
whom is enchained by his sins

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس گناہگار کا سوال جسے گناہوں نے تباہ  
کر دیا

مैं सवाल करता हूँ तुझ से, इस गुनाहगार के जैसा सवाल जिसे गुनाहों ने तबाह कर  
दिया

*asaluka su`ala muqtarifin mudhnibin qad awbaqathu  
dhunubuhu,*

وَأَوْثَقْتَهُ عَيْوَبُهُ ،

and is bound by his defects;

اور عیبوں نے جکڑ لیا ہے

और ऐबों ने जकड़ लिया है

*wa awthaqathu `uyubuhu,*

فَطَالَ عَلَى الْخَطَايَا دُؤُوبُهُ ،

therefore, he devoted himself to offenses

پس گناہوں پر اس کی عادت پختہ ہو چکی

बस गुनाहों पर इसकी आदत पुख्ता हो चुकी है

*fatala `ala alkhataia du `ubuhu,*

وَمِنَ الرَّزَايَا خُطُوبُهُ ،

and disasters have attacked him heavily.

اور بلاؤں سے مشکلیں بڑھ گئیں ہیں

और बलाओं से मुश्किलें बध गयीं हैं

*wa mina alrrzaia khutubuhu,*

يَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ ،

He is now begging You for accepting his  
repentance;

اب وہ سوال کرتا ہے تجھ سے توفیق توبہ

अब वो सवाल करता हूँ, तुझ से तौफ़ीके तौबा

*yasaluka alttubata,*

وَحُسْنَ الْأُوبَةِ ،

and for good return from You;

اور بہترین بازگشت کا

और बेहतरीन बाज़'गुज़शत का

*wa husna al-awbati,*

وَالنُّزُوعَ عَنِ الْحَوْبَةِ ،

and for redeeming from punishment;

گناہوں سے کنارہ کشی

गुनाहों से किनाराकशी

*wal-nnzu`a `ani alhawbati,*

وَمِنَ النَّارِ فَكَأَنَّكَ رَقَبَتِهِ ،

and for releasing from Hellfire;

اور آتش جہنم سے چھٹکارے کا خواہش مند ہے

और आतिशे जहन्नम से छुटकारे के खाहिशमंद है

*wa mina alnnari fakaka raqabatih,*



وَالْعَفْوِ عَمَّا فِي رِبْقَتِهِ ،

and for overlooking the sins that are  
hanged to him.

وہ اپنے سبھی گناہوں کی معافی چاہتا ہے

وہ اپنے سبھی گناہوں کی معافی چاہتا ہے

*wal-`afwa `amma fi ribqatihi,*

فَأَنْتَ مَوْلَايَ أَعْظَمُ أَمَلِيهِ وَثِقَتِيهِ.

**Certainly, You, O my Master, the greatest hope and desire that He has.**

پس تو میرا وہ مولا ہے جس پر امید و اعتماد ہے

بس تو मेरा वो मौला है जिस पर उम्मीद व एतेमाद है

*fanta mawlaiya a`zamu amalihi wa thiqatihi.*

اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ الشَّرِيفَةِ ،

And, O Allah, I beg You by all the holy  
means that You admit

اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے پاک معاملوں

اے مابود مے توجل سے سوال کرتا ہوں تے پاک ماملوں

*allahumma wa asaluka bimasa'ilika alshshrifati,*

وَوَسَائِكَ الْمُنِيفَةِ أَنْ تَتَغَمَّدَنِي فِي  
هَذَا الشَّهْرِ بِرَحْمَةٍ مِنْكَ وَاسِعَةٍ ،

and by all the elevated courses that take to  
You, that You, in this month, encompass  
me with vast mercy of You,

تیرے بلند وسیلوں کے واسطے سے کہ اس مہینے میں اپنی وسیع رحمت

تیرے بلند واسیلوں کے واسطے سے کی इस مہینے میں अपनी वसी'अ रहमत

*wa wasa'ilika almunifati an tataghammdany fi hadha  
alshshahri birahmatin minka wasi`atin,*

وَنِعْمَةٍ وَازِعَةٍ ،

with abundant favors,

اور بخششی جانے والی نعمتوں کو عطا فرما۔

और बखशी जाने वाली नेमतों को अता फ़रमा

*wa ni`matin wazi`atin,*

وَنَفْسِي بِمَا رَزَقْتَهَا قَانِعَةً ،

and with satisfaction with what You have  
decided for myself

اور جو روزی تو نے دی اس پر میرے نفس کو قانع فرما

और जो रोज़ी तुने दी इसपर मेरे नफ़स को राज़ी फ़रमा

*wa nafsini bima razaqtaha qani`atin,*

إِلَى نُزُولِ الْحَافِرَةِ ،

until I am put in my final destination,

تا وقت یکہ وہ قبر میں جائے

ता वक़्त की वो क़ब्र में जाए

*ila nuzuli alhafirati,*

وَمَحَلِّ الْآخِرَةِ ،

which is my abode to the Hereafter

اور منزل آخر پر پہنچے

और मंजिल आखिर पर पहुंचे

*wa mahall alakhirati,*



وَمَا هِيَ إِلَيْهِ صَائِرَةٌ.

and the Final Fate.

اور جس کی طرف اس کی بازگشت اس تک پہنچے۔

और जिस की तरफ़ इसकी बाज़'गुज़शत इस तक पहुंचे

*wa ma hiya ilayhi sa'iratun.*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

**O' Allāh send Your blessings on  
Muhammad  
and the family of Muhammad.**

اے اللہ! رحمت فرما محمد و آل (ع) محمد پر

ऐ अल्लाह मुहम्मद और आले मुहम्मद पर अपनी सलामती रख

***allahumma salli `ala muhammadin wa ali muhammadin***

**Please recite  
Sūrat al-Fātiḥah  
for  
ALL MARHUMEEN**



For any errors / comments please write to: [duas.org@gmail.com](mailto:duas.org@gmail.com)

Kindly recite Sura E Fatiha for Marhumeen of all those who have worked towards making this small work possible.  
To display the font correctly, please use the Arabic font "Attari\_Quran\_Shipped" , Urdu font "Alvi Nastaleeq" & Hindi font "Mangal". Download font here : <http://www.duas.org/fonts/>